



سوال

ایک شخص نماز کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دور سے دو لڑکے آ رہے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ میرے شاگرد شہزاد اور عبداللہ ہیں۔ اس نے قسم کھانی کہ ان کو نماز کا کہوں گا، لیکن جب وہ قریب آئے تو کوئی اور لڑکے تھے وہ انہیں نہیں جانتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ کیا اس قسم کا کفارہ ہوگا؟

جواب

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

اس نے اپنے شاگردوں کو نماز کھینے کی قسم کھانی تھی، جب وہ اس کے شاگرد ہی نہیں تھے، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹی اور کفارہ بھی نہیں ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

محدث فتویٰ کمیٹی

فضیلۃ الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی